

# Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. António Luís Santos da Costa, Prime Minister of the Portuguese Republic

March 16, 2021

## وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم عالی جناب اینٹونیو لوئس سینٹوس ڈی کوسٹا کے درمیان فون پر بات چیت 16 مارچ، 2021

نئی دہلی، 16 مارچ 2021 - وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم عالی جناب اینٹونیو لوئس سینٹوس ڈی کوسٹا کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔

دونوں لیڈروں نے دونوں ممالک میں کووڈ-19 کی وبا کی صورت حال کا جائزہ لیا۔ دونوں نے وبا کے خاتمے کے لئے ویکسین کی جلد اور مساوی تقسیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم کوسٹا کو بھارت کی ٹیکہ کاری مہم اور بھارت کے ذریعہ اب تک 70 سے زیادہ ملکوں کو دی گئی مدد سے واقف کرایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت جہاں تک ممکن ہو سکے گا دوسرے ملکوں کی ٹیکہ کاری کی کوششوں میں انہیں مدد دینے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔

دونوں لیڈروں نے دو فریقی تعلقات کا جائزہ لیا اور گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارت - پرتگال شراکت داری کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔

دونوں لیڈروں نے پہلی مرتبہ بھارت - یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی میٹنگ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ میٹنگ یورپی یونین کی پرتگال کی صدارت میں مئی 2021 میں پورٹو میں ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بھارت - یورپی یونین اسٹریٹیجک شراکت داری کو تقویت دینے کے لئے وزیر اعظم کوسٹا کے ذریعہ ادا کیے جارہے کردار کی ستائش کی اور کہا کہ وہ پورٹو میں ان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔

نئی دہلی

16 مارچ، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.